



## شعبہ ترسیل عامہ و صحافت

شعبہ ترسیل عامہ و صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (این سی پی یو ایل) نئی دہلی کے اشتراک سے نئی دہلی اور اطراف و اکناف کے ورکنگ اردو صحافیوں کے لیے پانچ (5) روزہ تربیتی ورکشاپ کا 3 تا 7 دسمبر 2016 انعقاد کر رہا ہے۔

اس ورکشاپ میں اردو صحافیوں کی صلاحیتوں کو فروغ اور صحافت میں درپیش نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے علاوہ دیگر موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا جس کا صحافیوں کو آئے دن سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ورکشاپ میں نامور میڈیا شخصیات کو بطور خدمات انجام دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے سبھی صحافیوں کو اسناد بھی دیئے جائیں گے۔

اس ورکشاپ میں شرکت کے خواہش مند اردو صحافی اپنی درخواستیں 10 نومبر 2016 تک داخل کر دیں۔ ورکشاپ میں چونکہ نشستیں محدود ہیں اس لیے پہلے او پہلے پاؤ کی بنیادوں پر صحافیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ منتخب صحافیوں کو ڈاک / ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔ ورکشاپ کے دوران طعام کا انتظام رہے گا جبکہ بیرون شہر سے آنے والے صحافیوں کو طعام کے علاوہ قیام اور حکومت ہند کے قواعد کے مطابق آمدورفت کے اخراجات بھی دیئے جائیں گے۔

(نوٹ۔ ورکشاپ میں رجسٹریشن کے لئے کوئی فیس نہیں ہے)

اہم تواریخ	
۱۰ نومبر ۲۰۱۶	رجسٹریشن کے درخواست فارم کے داخل کرنے کی آخری تاریخ
۲۰ نومبر ۲۰۱۶	کے منتخب کردہ صحافیوں کو بذریعہ ڈاک / ای میل اطلاع
۳ تا ۷ دسمبر ۲۰۱۶	ورکشاپ کی تواریخ

شکریہ:

پروفیسر احتشام احمد خان

ڈین اور صدر،

شعبہ ترسیل عامہ و صحافت

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد - ۵۰۰۳۲